



سوال

(271) تین وتر پڑھتے وقت قعدہ نہ کرنے کی صحیح حدیث

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تین وتر پڑھتے وقت دوسری رکعت میں قعدہ نہ بیٹھنے کی صحیح حدیث تحریر فرمادیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسند رک حاکم میں مرفوع حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں «کان رسول اللہ ﷺ یوتر بثلاث لا یفتقد الا فی آخرہن» «نبی ﷺ تین وتر پڑھتے آخری رکعت میں بیٹھتے» مطبوعہ نسخہ «لا یفتقد» کو حاشیہ پر لکھ دیا گیا ہے اور اس کی جگہ «لا یسلم» مگر یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ تلخیص ذہبی اور متقدمین اہل علم کے حوالہ جات سے واضح ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل

نماز کا بیان ج 1 ص 221

محدث فتویٰ